


جانان کي ٻارن کي ڄاڻڻ

A snakke om familien



✎ Espen Stranger-Johannessen
👤 Billie Cejka Risnes
👤 Yasir Tayyab
3
🌐 / norsk / nb



LIDA Stories

lidastories.net

جانان کي ٻارن کي ڄاڻڻ / A snakke


om familien

✎ Espen Stranger-Johannessen

👤 Billie Cejka Risnes

👤 Yasir Tayyab (ur), Espen Stranger-

Johannessen (nb)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



”کیا آپ کا کوئی خندان ہے؟“


...

«Har du familie?»

«Det er en god ide. Jeg håper også at
barna mine vil begynne på universitetet
etter hvert.»

...


«میرے بچے بھی اچھے سوچ رہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ میرے
بچے کسی دن یونیورسٹی چنیں گے۔»



«Ja, mannen min og jeg har to døtre og en
sønn.»

...

«جی ہاں، میرے شوہر اور میں نے دو بیٹیوں اور ایک بیٹے ہیں۔»





”میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں طلاق یافتہ ہوں۔“

...

«Jeg har også to døtre, men jeg er skilt.»



”وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ

اسے یونیورسٹی چننا چاہیے۔“

...

«Han vil få seg en jobb, men jeg sier til ham at han burde begynne på universitetet i stedet.»

”ذہانت کھڑکی کی پنپتہ کی شاہ“

...

«Hvor gamle er døtrene dine?»




”ذہانت کھڑکی کھڑکی کے اسے وہ پنپتہ“

”کھڑکی کے پنپتہ کی شاہ کی پنپتہ کی شاہ“

...

«Så finti De vokser så fort. Hva vil han gjøre etter det?»





“مید چر بدل کی ہے۔ وہ نرسری اسکول جتی ہے۔ مریم دس
بدل کی ہے، اس لیے وہ اسکول جتی ہے۔”

...

«Mina er fire år. Hun går i barnehagen.
Miriam er ti, så hun går på skolen.»



“میرے تھم بچے سکول میں ہیں۔ میرا بیڈا اگلے بدل
گریجویٹ ہو جائے گا۔”

...

«Alle barna mine går på skolen. Sønnen
min blir ferdig neste år.»